

**مذہبہ اور - صحت کا نکتہ اہم اہم نکتہ**

پہلے ہم ملاحظہ فرمائیں کہ صحت پر کتنا اثر ہے۔ جہاں صحت خراب ہے وہاں جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہوتی ہے۔ صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی میں کمی آتی ہے۔

1. صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہوتی ہے۔
2. صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی میں کمی آتی ہے۔
3. صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہوتی ہے۔
4. صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہوتی ہے۔
5. صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہوتی ہے۔
6. صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہوتی ہے۔
7. صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہوتی ہے۔
8. صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہوتی ہے۔
9. صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہوتی ہے۔
10. صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہوتی ہے۔

نتیجہ:

صحت خراب ہونے سے جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہوتی ہے۔